

Through PUCARS & COURIER

Ref. No. HTLL/Corporate/10-2025/003  
October 02, 2025

The General Manager  
Pakistan Stock Exchange Limited  
Stock Exchange Building  
Stock Exchange Road  
Karachi.

Subject: **Pre-publication Announcement: Newspaper Advertisements for Notice of AGM.**

Dear Sir,


Enclosed please find Newspaper advertisements of following details regarding Notices of Annual General Meeting of HTL for information to all concerned.

- English Daily Business Recorder (Nationwide) on October 03, 2025;
- Urdu Daily Nawa e Waqt (Nationwide publication) on October 03, 2025;

Yours Sincerely,

For and on behalf of **Hi-Tech Lubricants Limited**

(Fraz Amjad Khawaja)



**Company Secretary & Chief Compliance Officer**

Enclosures: As mentioned above



www.hitechlubricants.com



+92-42-111-645-942



+92-42-36311884



info@hitechlubricants.com

**OFFICES:**

CORPORATE: 1-A Danepur Road, GOR-1, Lahore.

KARACHI: C-6 /1, Street No. 3, Bath Island, Clifton Karachi. Tel: +92- 21-111-645-942, Fax +92-21-35290672.

ISLAMABAD: Suite # 1402, 14th Floor Green Trust Tower, Jinnah Avenue Blue Area, Islamabad Tel: +92-51-111-645-942, Fax: +92-51-2813057.

RAWALPIND: Office No. 380, 3rd Floor, Danga Trade Center, Islamabad Road, Peshawar Cantt. Tel: +92-01-5253186-7 Fax: +92-01-5253188

Ad Size 40x4 CM

**HI-TECH LUBRICANTS LIMITED****NOTICE OF 17<sup>TH</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Notice is hereby given that 17th Annual General Meeting of shareholders of Hi-Tech Lubricants Ltd. (the "Company") will be held on **Friday 24.10.2025 at 11:00 Hours at Jinnah Auditorium, Lahore Chamber of Commerce and Industry (LCCI), 11-Shahrah-e-Aiwan-e-Tijarat, Lahore and via video link / Zoom application** to transact following businesses:

**ORDINARY BUSINESSES**

- To confirm minutes of 16th Annual General Meeting held on 26.10.2024, as submitted to PSX.
- To receive, consider and adopt Annual Audited Financial Statements of the Company for the year ended 30.06.2025 together with Auditor's and Board of Directors' reports thereon.
- To appoint Auditors of the Company for next financial year 2025-26 and to fix their remuneration. Present auditors M/s Riaz Ahmad & Co. Chartered Accountants, retired and being eligible, offer themselves for reappointment as Auditors of the Company.

**SPECIAL BUSINESSES**

- To consider, and if thought fit, to pass following resolutions, with or without modifications, as special resolutions, (a) to ratify and approve transactions carried out with associated undertaking Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended 30.06.2025 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out with SHT during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company.
- (a) **"Resolved that** following transactions as carried out by the Company with related party Sabra Hamida Trust (SHT) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved".

Name(s)	Nature of Transactions	Amount(PKR)
Sabra, Hamida Trust (SHT)	Donations under CSR Policy	18,000,000/-

- (b) **"Further resolved that** Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with SHT up to the amount of PKR 30 Million during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company."
- (c) **"Further resolved that** all transactions of the Company with SHT during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company, including as approved by Board of Directors under above authorization shall be deemed to have been approved by shareholders and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."
- To consider and if thought fit to pass following resolutions with or without modifications as special resolutions (a) to ratify and approve transactions carried out with wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended 30.06.2025 and (b) & (c) to authorize Board of Directors to approve all related party transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company;
- (a) **"Resolved that** following transactions as carried out by the Company with related party and wholly owned subsidiary company Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) during financial year ended 30.06.2025 be and are hereby ratified and approved"

Name(s)	Nature of Transactions	Amount (PKR)
Hi-Tech Blending (Private) Limited (HTBL) (HTBL is a wholly owned subsidiary company of HTL)	Sale of Lubricants	2,582,362
	Purchase of Lubricants	6,975,090,919
	Lease Rentals Paid	3,000,000
	Short term loan given	512,800,000
	Short term loan repaid	512,800,000
	Interest Received on Short Term loan	36,714,195

- (b) **"Further resolved that** Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to approve all transactions carried out and to be carried out with HTBL during financial year ending June 30, 2026 and thereafter till next AGM of the Company."
- (c) **"Further resolved that** all the transactions of the Company with HTBL during financial year ending 30.06.2026 and thereafter till next AGM of the Company, including as approved by Board of Directors under above authorization shall be deemed to have been approved by shareholders and same shall also be placed before shareholders in next annual general meeting for their formal ratification / approval."
- To transact any other business with the permission of the Chair.

**BY ORDER OF THE BOARD**

(Fraz Amjad Khawaja)

**Company Secretary****Lahore, October 03, 2025**

Note: The Statements of Material Facts under Section 134(3) of the Companies Act, 2017 pertaining to the Special Businesses of Notice concerning information as required to be disclosed under applicable provisions of relevant laws and regulations is being dispatched to shareholders alongwith printed notice of AGM.

**NOTES:**

- Book Closure:** The share transfer books of the company will remain closed from 18-10-2025 to 24-10-2025 (both days inclusive). Transfers received in order at the office of the Company's Share Registrar, M/S CDC Share Registrar Services Limited, (CDCSRSL / Share Registrar of the Company) CDC House, 99-B, Block "B", S.M.C.H.S., Main Shahrah-e-Faisal, Karachi. Telephone: +92 21 111-111-500 Fax: +92 21 34326053 Toll Free: 0800 23275 (CDCPL), Email address: info@cdcsl.com, Website: <https://www.cdcsl.com> by the close of business (5:00 PM) on 17-10-2025 will be considered in time to be eligible for the purpose of attending and voting at 17th Annual General Meeting of the Company (hereinafter referred to in this notice as the "AGM").
- Appointment of Proxy:** A member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint another member as a proxy to attend and vote instead of him/her. The instrument appointing a proxy must be received at the Registered Office of the company not less than 48 hours before the time fixed for AGM.
- Online Arrangements for AGM:** The Company has made both arrangements while also ensuring compliance with quorum and other legal / regulatory requirements of general meetings. Shareholders of the Company are encouraged to participate in AGM electronically through video link / Zoom Application and further encouraged to consolidate their attendance through proxies.



- A. **Online Participation in AGM via ZOOM Application:** The shareholders are encouraged to login and participate in the proceedings of AGM through their own smart phones/computers from their own convenient locations after completing all formalities as required for verification and identification of shareholders. To attend the AGM electronically, the Login facility will be opened about half hour before start of AGM.
- B. The shareholders of the Company, who wish to attend the AGM electronically through video link, are requested to register their following particulars by sending an e-mail at [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) latest by or before the close of business hours (5:00 p.m.) on 23-10-2025. Emails after this date/time may remain un-responses.

Folio/ CDS Account No.	No. of Shares held	Name of Shareholder	Father's/ Husband's name	CNIC No.	Cell Phone No. with Whatsapp	Active email address

The video link and/or login credentials will be shared with the shareholders whose e-mails, containing all the requested particulars, are received at the given e-mail address by or before the date/time specified above. For any query regarding procedure /requirements of online participation in AGM, shareholders may please contact on the above-mentioned e-mail address or at +92 42 111 645 942 during business hours.

- C. **Online Submission of Comments / Suggestions:** The shareholders are also encouraged to send their comments / suggestions in writing, related to the proposed agenda items of the AGM by sending an email at [info@masgroup.org](mailto:info@masgroup.org) by the close of business hours (5:00 p.m.) on 23-10-2025.
4. **Verification and Identification of Participants at AGM:** Each online participant shall authenticate his/her identity at AGM by enabling clear camera of his/her computer device / mobile etc. for verification and identification purposes.

**A. For Attending the Meeting**

(i) In case of Individuals, the account holder and/or sub-account holder whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations shall authenticate his/her identity by submitting online scan/photo of his/her original CNIC/Passport along with Participant ID & Account number at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

(ii) In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature of the nominee shall be submitted online (unless it has been provided earlier) at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

**B. For Appointing Proxies**

(i) In case of individuals, the account holder and/or sub-account holder, whose registration details are uploaded as per the CDC Regulations, shall submit scan/photo of the proxy form as per above requirements.

(ii) The proxy form shall be (i) duly stamped with adhesive revenue tickets of PKR 50/- and (ii) witnessed by two persons, whose names, addresses and CNIC numbers shall be mentioned on the proxy form.

(iii) Attested copies of CNIC or the Passport of beneficial owners and of the proxy shall be furnished with the proxy form.

(iv) The proxy shall submit scan/photo of his original CNIC or Passport at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

(v) In case of corporate entity, scan/photo of the Board's resolution / power of attorney with specimen signature thereon shall be submitted online (unless it has been provided earlier) along with proxy form to the Company at the time of login to the video link/Zoom application for attending online AGM.

5. **Correspondence by Shareholders:** The shareholders must identify themselves by quoting their respective Folio/ CDS Account numbers in all correspondence with the Company and/or with Share Registrar of the Company for any purpose including but not limited to the Online Participation in AGM, Comments & Suggestions on proposed agenda items in AGM / Transfers & Transmissions of shares, and Changes/Updates in CNIC/NICOP/Passport # IBAN/ Correspondence Address / Email Address / Mobile Phone # etc.

6. **Video Conferencing Facility:** If the Company receives consent from shareholders holding aggregate 10% or more shareholding, residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of AGM, the Company will arrange video conference facility in that city subject to availability of such facility in that city.

In this regard, please fill the following and submit to registered address of the company at least 7 days prior to the date of AGM.

"I/We, \_\_\_\_\_ of \_\_\_\_\_, being a member of Hi-Tech Lubricants Limited, holder of \_\_\_\_\_ ordinary share(s) as per Registered Folio/CDC Account/Sub Account No. \_\_\_\_\_ hereby opt for video conference facility at \_\_\_\_\_.

7. **Placement of Notice & Proxy Forms (English & Urdu) and Financial Statements on the Company's Website:** The Company has placed the Notice of AGM along with Form of Proxy in English & Urdu languages and the Audited Financial Statements for last completed financial year ended 30.06.2025 along with Auditor's and Directors' Reports thereon on the Company's website: [www.hitechlubricants.com](http://www.hitechlubricants.com) and at PUCARS website of PSX <https://dps.psx.com.pk/company/HTL>.

8. **Transmission of Audited Financial Statements & Notices of General Meetings:** Audited financial statements of the Company are being sent to shareholders through printing of QR Enabled Code and Weblink on the printed notice of AGM which is being sent/dispached to all shareholders through post/courier. Soft copies of any or all the documents and information of the Company including audited financial statements and notices of general meeting are also being sent electronically through emails to shareholders whose email addresses are available with the Company, however, the Company shall provide hard copies of Audited Financial Statements and notices of general meetings to its shareholders, on their written request, free of cost, within seven days of receipt of such request.

9. **Voting on the Special Businesses:** Entitled shareholders of the Company are being allowed to exercise their right to Vote through Electronic Voting and Voting by Post on the Special Businesses of the notice of AGM, in the manner and subject to the conditions contained in the Companies (Postal Ballot) Regulations, 2018;

**A. Procedure for Electronic Voting:** M/S CDC Share Registrar Services Ltd. (CDCSRSL/Share Registrar of the Company/E-Voting Service Provider for the Company) has been appointed as e-voting Service Provider of the Company for the Special Businesses to be conducted in AGM;

(i) Details of electronic voting (including website address Login and Password) shall be provided to entitled shareholders of the Company through their email addresses as available with the Company, whereas security codes will be communicated to the shareholders through SMS on their mobile phone numbers as available with the Company from the web portal of CDCSRSL;

(ii) Identities of shareholders shall be authenticated through electronic signatures/authentication for login;

(iii) E-voting lines will open at 9:00 hours on 21.10.2025 and close at 17:00 hours on 23.10.2025. No subsequent change will be allowed once the vote is cast during this period.

- B. **Procedure for Voting by Post:** Shareholders may complete and sign the Ballot Paper and send the same along with the copy of valid and legible copy of Computerized National Identity Card (CNIC) either through scan & email or via courier/post to the address as mentioned on the Ballot Paper till 23.10.2025. The signature on the ballot paper must match with signature on CNIC.

10. **Mandatory Conversion of Physical Share Certificates into Book Entry Form:** In continuation to Company's efforts to follow up through newspaper advertisements with all shareholders holding shares in physical form as required under SECP's letter number CSD/ED/Misc. /2016-639-640 dated March 26, 2021, the shareholders holding Physical Share Certificates must comply with section 72 of Companies Act 2017 and they should open their respective account(s) with Central Depository Company of Pakistan Limited (CDC) (either Investor Account directly with CDC or sub-account under any eligible broker) and must convert their respective physical shares into book entry forms on priority basis. Shareholders may contact Share Registrar of the Company to understand the process of conversion of physical shares into the book entry form and benefits of holding book entry shares.

11. **Appointment of Scrutinizer and Purpose of Appointment:** M/S Riaz Ahmed and Company, Chartered Accountants, (the External Auditors of the HTL) has been appointed by the Board as Scrutinizer for the purposes of Special Business to be conducted in the AGM.

# ہائی ٹیک بریکنگس لمیٹڈ



## اطلاع برائے سترھویں سالانہ اجلاس عام

بذریعہ بذراصل کیا جاتا ہے کہ ہائی ٹیک لبریکیشن کیلئے (کمپنی) کے حصہ داران کا سترصواں سالانہ اجلاس عام بروز جمعہ ۲۳ اکتوبر ۲۰۲۵ کو صبح نو بجے بمقام چٹان آڈیٹوریم، لاہور جوہیر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ۱۱-شاہراہ قائد اعظم، ایوان تجارت، لاہور میں اور بذریعہ وڈیولنک ڈوماسٹکیشن ورچوئل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

عام امور:

۱۔ کمپنی کے سولہویں سالانہ اجلاس عام منعقدہ ۲۶ اکتوبر ۲۰۲۳ء کی پی ایس ایکس کو ارسال کردہ مختصر روئیداد کی توثیق کرنا۔

۲۔ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو قلم شدہ مالی سال کیلئے کمپنی کے سالانہ آڈٹ شدہ حسابات اور اس کے ساتھ ڈائریکٹران اور ڈیڑی کے رپورٹوں کو وصول کرنا وغیرہ کرنا اور اپنانا۔

۳۔ اگلے مالی سال ۲۰۲۵-۲۶ء کیلئے کمپنی کے آڈیٹرز کی تقرری اور ان کے معاوضے کا تعین کرنا۔ موجودہ آڈیٹرز میسرز ریاض احمد اینڈ کمپنی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، ریٹائرڈ اور اہل ہونے کے باعث، کمپنی کے آڈیٹرز کے طور پر دوبارہ تقرری کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔

خصوصی امور:

۳۔ مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا، اور اگر مناسب لگے تو ان کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے ذمے میں منظور کرنا۔ (الف) ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم شدہ سال کے لئے کینٹی کی متعلقہ پارٹی صارفہ جیدہ فرسٹ (SHT) کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری کرنا، اور (ب)۔ (پ) پورڈ آف ڈائمنڈز کو ۳۰ جون ۲۰۲۶ء کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اس کے بعد کینٹی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری کا اقرار دینا۔

(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹی صابرہ جمید وٹرسٹ (SHT) کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

متعلقہ پارٹی کا نام	لین دین کی نوعیت	رقم (روپوں میں)
صابرہ حمید وٹرسٹ (SHT)	چندہ کے لئے مختص رقم تحت CSR پالیسی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰

(ب) مندہ قرار پایا کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا علاقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے دوران ۳۰ ملین روپے کی رقم تک اور اس کے بعد کمیٹی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار۔

(پ) مذید قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ہفت روزہ کے بعد کمپنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے SHT کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرجہ بالا اعتبار کے تحت منظور کیں، حصہ داران کی جانب سے منظور شدگی کی جائے گی اور آئندہ سالانہ اجلاس عام میں حصہ داران کے سامنے ان کی توثیق اور ریختن ضروری کے لئے پیش کیے جائیں گے۔

۵۔ مندرجہ ذیل قراردادوں پر غور کرنا، اور اگر مناسب لگے تو ان کو ترمیم کے ساتھ یا بغیر خصوصی قراردادوں کے دمرے میں منظور کرنا۔ (الف) ۳۰ جون ۲۰۲۵ کو ختم شدہ سال کے لئے کچنی کی متعلقہ پارٹی بائی ٹیک لینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹید (HTBL) کی HTL (مملکتیں ذیلی کچنی) کے ساتھ لین دین کی توثیق اور منظوری کرنا، اور (ب) (پ) بورڈ آف ڈائریکٹرز کو ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اس کے بعد کچنی کے اگلے سالانہ اجلاس عام کے لئے HTBL کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین کی منظوری کا اختیار دینا۔

(الف) قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۵ء کو ختم شدہ سال کے لئے کمپنی کی متعلقہ پارٹنر بانی ٹیک پلینڈنگ (پرائیویٹ) لمیٹڈ (HTBL) (HTL) کی کل ملکیتی ذیلی کمپنی کے ساتھ مندرجہ ذیل لین دین کی توثیق، منظوری اور تصدیق کی جاتی ہے۔

متعلقہ پارٹی کا نام	بین بین کی نوعیت	رقم (روپاں میں)
ہائی ٹیک اینڈنگ (پرائیویٹ) لیمیٹڈ (HTBL) (HTL کی مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی)	لیز ٹیکس کی فروخت	۲,۵۸۲,۳۶۴
	لیز ٹیکس کی خریداری	۶,۹۷۵,۰۹۰,۹۱۹
	لیز کے ادا شدہ کرایہ جات	۳,۰۰۰,۰۰۰
	قبضہ ملحقہ دئے گئے قرضہ جات	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	قبضہ ملحقہ قرضہ جات کی واپسی	۵۱۲,۸۰۰,۰۰۰
	قبضہ ملحقہ دئے گئے قرضہ جات پر وصول شدہ سود	۳۶,۷۱۳,۱۹۵

(ب) مذکور قرار پایا کہ کمیٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو درج بالا متعلقہ پارٹی کے ساتھ اب تک کی اور سال ۲۰۲۶ء کے خاتمے اور اس کے بعد کمیٹی کے اگلے سالانہ اجلاس عام تک کے لئے تمام لین دین کو منظور کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے۔

(پ) مذید قرار پایا کہ ۳۰ جون ۲۰۲۶ کو ختم ہونے والے سال کے دوران اور اس کے بعد کمپنی کے اگلے سالانا اجلاس عام تک کے لئے HTBL کے ساتھ ہونے والے تمام لین دین، بشمول جو بورڈ نے مندرجہ بالا اختیار کے تحت منظور کیں، حصہ داران کی جانب سے منظور شدہ بھی جائے گی اور آئندہ سالانا اجلاس میں حصہ داران کے سامنے ان کی توثیق اور ری منظوری کے لئے پیش کیے جائیں گے۔

۷۔ اجلاس کے چیئرمین کی اجازت کے ساتھ کسی مذید کاروبار کے بارے میں غور کرنا۔

بحکم پورڈ

فراز امجد خواجہ، کمپنی سیکریٹری، لاہور، ۳ اکتوبر ۲۰۲۵ء

(نوٹ) کمپنیز ایکٹ بحریہ ۲۰۱۷ء کی دفعہ (۳) ۱۳۳ کے تحت نوٹس کے خصوصی کاروبار سے متعلق مادی حقائق کے بیانات، جن کو متعلقہ قوانین اور ضوابط کی لاگو شدہ قواعد کے تحت ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، ہمدردان کو سالانہ اجلاس عام کی طبع شدہ کاپی کے ساتھ بھیجے جا رہے ہیں۔

نوٹ:

[illegible]

۲۔ تابع کی تقرری۔ اجلاس میں شرکت اور ووٹ دینے کا اہل رکن، اجلاس میں شرکت کیلئے اپنی بجائے کسی دوسرے رکن کو اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے۔ تاہم وہی فارم یا قواعد و دستخط شدہ اور مہر شدہ لازماً اجلاس سے کم از کم اڑتالیس (۲۸) گھنٹے قبل کہنی کے رجسٹرڈ دفتر میں جمع کرائے جانے چاہئیں۔

۱۳۔ اجلاس کے لیے آن لائن انتخابات۔ کمپنی نے اجلاس میں شرکت کے لئے طلبیہ و آن لائن دونوں طرح کے انتخابات کیے ہیں جبکہ کورم اور عام اجلاسوں کے دیگر قانونی / ریگولیٹری تقاضوں کی تعمیل کو بھی یقینی بنایا ہے۔ کمپنی کے حصہ داران کو ویڈیو لنک / زوم ایپلیکیشن کے ذریعے الیکٹرانک طور پر اجلاس میں شرکت کرنے کی تہذیب دی جاتی ہے اور مزید حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ نامزد ہنگاموں کے ذریعے اپنے الیکٹرانک حاضری کو مستحکم کریں۔

الف۔ ذوم (Zoom) ایپلیکیشن کے ذریعہ اجلاس میں شرکت۔ حصہ داران کو اپنی سہولت کی جگہوں سے اپنے سمارٹ موبائل فون / کمپیوٹر آلات کے ذریعے، حصہ داری کی تصدیق اور شناخت کے تمام مطلوبہ اور زمری مراحل مکمل کرنے کے بعد اجلاس کی کارروائی میں شرکت کے لئے لاگ ان (Login) کر کے شرکت کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ لاگ ان (Login) کی سہولت اجلاس کے آغاز سے تقریباً آدھ گھنٹہ قبل مکمل کی جائے گی۔



۱۱۔ سلسلہ دہائیزدہی تقرری اور تقرری کا مقصد: میسرز ریاض احمد اینڈ جینی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، HTD کے ہیرونی آڈیٹرز کو بورڈ نے اجلاس میں منعقد کیے جانے والے خصوصی روپواروں کے مقاصد کے لیے اجلو سلسلہ دہائیزدہی تقرری کیا ہے۔